

ROOTWORDS OF SURAH AL BAQARAH 65-74

اَعْتَدُوا	السَّبَبِ	قِرْدَةً	خَاسِنِينَ	نَكَالًا
ع د و	س ب ت	ق ر د	خ س أ	ن ك ل
زیادتی کی	ہفتہ کے دن	بندر	ذلیل و خوار	عبرت
يَدِيهَا	خَلْفَهَا	مَوْعِظَةً	لِلْمُتَّقِينَ	هُزُوا
ی د ی	خ ل ف	و ع ظ	و ق ی	ه ز أ
ان کے آگے	ان کے بعد آنے والے	نصیحت	پرہیز گاروں کے لیے	مذاق
ادْعُ	يُبَيِّنُ	فَارِضُ	بِكَرٍ	عَوَانُ
د ع و	ب ی ن	ف ر ض	ب ك ر	ع و ن
دعا کرو	وہ بیان کریں	بوڑھی	جوان	میانہ عمر
لَوْنُهَا	صَفَرَاءُ	فَاقِعُ	تَسْرُرُ	النَّاطِرِينَ
ل و ن	ص ف ر	ف ق ع	س ر ر	ن ظ ر
اس کا رنگ	زرد	گہرا زرد / پچکیلا	خوش کر دیتا ہو	دیکھنے والوں کو
تَشَابَهَ	ذُلُولٌ	تُثِيرُ	تَسْقِي	الْحَرَثَ
ش ب ہ	ذ ل ل	ث و ر	س ق ی	ح ر ث
مشتبہ ہو گئی ہے	محنت کرنے والی	جوتی	پانی دیتی ہو	کھیتی کو
شِيَّةَ	فَادَارَ أَتُمْ	تَكْتُمُونَ	أَضْرِبُوهُ	يُحْيِي
و ش ی	د ر أ	ك ت م	ض ر ب	ح ی ی
کوئی داغ	پھر باہم جھگڑنے لگے تم	تم چھپاتے تھے	مارا اس کو	زندہ کرتا ہے
آيَاتِهِ	شِيَّةَ	فَادَارَ أَتُمْ	تَكْتُمُونَ	أَضْرِبُوهُ
أ ی ی	و ش ی	د ر أ	ك ت م	ض ر ب
اپنی نشانیاں	کوئی داغ	پھر باہم جھگڑنے لگے تم	تم چھپاتے تھے	مارا اس کو
يُحْيِي	يَشَقُّقُ	الْمَاءُ	يَهْبِطُ	خَشِيَّةَ
ح ی ی	ش ق ق	م و ہ	ہ ب ط	خ ش ی
زندہ کرتا ہے	پھٹ جاتے ہیں	پانی	گر پڑتے ہیں	ڈر